

سندھ ایکٹ نمبر XXV مجریہ ۲۰۱۳

SINDH ACT NO.XXV OF 2013

سندھ (ایڈہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا)

ایکٹ، ۲۰۱۳

THE SINDH (REGULARIZATION OF ADHOC AND CONTRACT EMPLOYEES) ACT, 2013

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ تعریف

Definition

۳۔ ملازمین کی ملازمتوں کی مستقلی

Regularization of services of employees

سندھ ایکٹ نمبر XXV مجریہ ۲۰۱۳

SINDH ACT NO.XXV OF

2013

سندھ (ایڈہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل
کرنا) ایکٹ، ۲۰۱۳

THE SINDH (REGULARIZATION OF ADHOC AND CONTRACT EMPLOYEES) ACT, 2013

[۲۵ مارچ ۲۰۱۳]

تمہید (Preamble)

ایکٹ جس کے ذریعے ایڈہاک اور کانٹریکٹ بنیادوں پر مقرر کردہ کچھ ملازمین کی ملازمتوں یا دوسری صورت میں (دہاڑی اور کام کے مطابق معاوضہ دینے کی بنیاد پر مقرر کردہ ملازمین کے علاوہ) کو مستقل کیا جائے گا۔

مختصر عنوان اور
شروعات
Short title and
commencement
تعریف

جیسا کہ سندھ صوبہ میں ایڈہاک اور کانٹریکٹ بنیادوں پر مقرر کردہ کچھ ملازمین کی ملازمتوں یا دوسری صورت میں (دہاڑی اور کام کے معاوضہ دینے کی بنیاد پر مقرر کردہ ملازمین کے علاوہ) کو مستقل کرنا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگا؛
اس کو اس طرح عمل میں لایا جائے گا:

Definition

۱۔ (۱) اس ایکٹ کو سندھ (ایڈہاک اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا) ایکٹ، ۲۰۱۳ کہا جائے گا۔
(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

۲۔ اس ایکٹ میں جب تک کچھ مفہوم میں دوسرا مطلوب نہیں ہے:

(a) "ایکٹ" مطلب سندھ سول سرونٹس ایکٹ،
۱۹۷۳؛

(b) "ملازم کی تقرری" مطلب ایڈہاک اور کانٹریکٹ بنیاد رپر مطلوب صلاحیت رکھنے والا ملازم یا دوسری صورت میں (دہاڑی اور کام کے مطابق معاوضہ دینے کی بنیاد پر مقرر کردہ ملازمین کے علاوہ) کو مستقل کرنا؛

ملازمین کی

ملازمتوں کی مستقلی
Regularization
of services of
employees

- (c) "حکومت" مطلب حکومت سندھ؛
(d) "ملازم" مطلب وہ شخص جو ایڈہاک اور
کانٹریکٹ بناد پر یا دوسری صورت میں
(دہاڑی اور کام کے معاضہ پر مقرر کردہ
ملازم کے علاوہ) مقرر کیا گیا ہو؛
(e) "عہدہ" مطلب عہدہ جو سرکاری محکمہ میں
ملازم کے پاس ہو اور اس میں شامل ہے،
ایسے کسی محکمہ کے پروجیکٹ میں
عہدہ، جو صوبہ کے معاملات کے متعلق
ہے۔

۳۔ جب تک کچھ اس سلسلے میں بنائے گئے اس
ایکٹ یا قواعد یا عدالت کے کسی فیصلے، ڈکری،
حکم یا فتویٰ کے متضاد نہ ہو، لیکن اس ایکٹ کی
دیگر گنجائشوں کے تحت ایڈہاک یا کانٹریکٹ بنیاد یا
دوسری صورت میں (دہاڑی اور کام کے معاضہ پر
مقرر کردہ ملازمین کے علاوہ) پر بی ایس 1- سے
بی ایس 18- تک یا اس کے مساوی اسکیل میں مقرر
شدہ ہو، یا دوسری صورت میں ایسے عہدے پر
تقرری کی قابلیت رکھتا ہو اور سرکاری محکمہ میں
ملازمت میں ہے اور صوبے کے معاملات سے
متعلقہ کسی پروجیکٹ میں ہے، وہ فی الفور اس ایکٹ
کے نافذ ہونے سے پہلے مقرر کردہ ہو تو اس کو
موثر طریقے اور ضابطہ کے تحت مستقل سمجھا
جائے گا۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت
کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا
سکتا